

11059 - کیا عورت بیٹے کے سامنے بھی اپنا چہرہ اور بال ڈھانپے گی ؟

سوال

یہاں امریکہ میں پردہ کے متعلق انگریزی میں جتنی بھی کتب ہیں ان میں عورت کے لباس کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہیں، بعض کتابوں میں ہے کہ عورت اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرہ ننگا کر سکتی ہے، اور بعض میں لکھا ہے کہ وہ صرف اپنے ہاتھ اور چہرہ ننگا کر سکتی ہے، اور بعض میں لکھا ہے کہ صرف ہاتھ ہی ننگے کر سکتی ہے، اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی صرف آنکھ ننگی کی جا سکتی ہے، تو ہم ان اقوال میں تطبیق کس طرح دیں ؟

کیا ان میں سے ہر قول کی دلیل ملتی ہے ؟

میں اپنے سارے جسم کا مکمل پردہ کرتی ہوں جن میں ہاتھوں اور چہرے کا پردہ بھی شامل ہے، آخر میں میں نے ایک کتاب "purdah" پڑھی جس میں کاتب نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ باقی سارے جسم کا پردہ کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں اور والد کے سامنے بھی، تو کیا یہ صحیح ہے ؟
کیا میرے لیے والد کے سامنے اپنے بال ننگے کرنا جائز نہیں، یا کہ یہ عبارت کتاب لکھنے والے کی ملک کی عادات اور رواج کو ظاہر کرتی ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

عورت کے پردہ کے متعلق مذکورہ بالا اختلاف اجتہاد میں شامل ہوتا ہے، ایک راجح یہی ہے کہ غیر محرم اور اجنبی مرد سے عورت کا اپنے چہرے اور ہاتھوں، اور بالوں سمیت سارے جسم کا پردہ کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمومی فرمان ہے:

اور آپ مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سوائے اسکے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ انکی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو، تا کہ تم نجات پا جاؤ النور (31).

اور گریبان پر اوڑھنی ڈالنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب چہرہ بھی ڈھانپا جائے، اور بال وغیرہ ننگے کرنا تو بالاولیٰ چھپانے ہونگے، اور ان کا ننگا کرنا حرام ہے۔

اور اس لیے بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" عورت ساری کی ساری پردہ اور ستر ہے "

اور اس لیے بھی کہ چہرے کی جانب دیکھنا فتنہ سے خالی نہیں، اور چہرے اور ہاتھ ننگے رکھنے کے متعلق وارد حدیث صحیح نہیں۔

اور رہا مسئلہ عورت کا اپنے محرم مردوں بھائی اور والد اور چچا وغیرہ کے سامنے کیا ظاہر کر سکتی ہے اور ستر کیا ہے، تو عورت کے لیے محرم مرد کے سامنے اپنا سر، چہرہ اور ہاتھ اور گردن اور پاؤں ننگے کرنا جائز ہے، کیونکہ ان سے چھپانے میں مشقت ہے، اور فتنہ نہیں ہے۔

الشیخ ولید الفریان۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں:

" یعنی دوپٹے اور چادر اس قسم کی بنائے کہ اسے اپنے سینہ پر لٹکا کر رکھے، تا کہ اس کے نیچے سینہ اور پسلیاں وغیرہ کو چھپا کر اہل جاہلیت کی عورتوں کی مخالفت کریں، کیونکہ جاہلیت کی عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں، بلکہ ان کی عورتیں مردوں میں اپنا سینہ کھول کر چلتی تھیں، اور کچھ نہ چھپاتی، اور بعض اوقات تو اپنی گردن اور بال اور کانوں کی بالیاں تک ننگی کر کے رکھتی تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی حالتوں اور ہیئت چھپا کر رکھیں۔

جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا:

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد انکی شناخت ہو جایا کریگی پھر وہ سنائی نہ جائیگی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے

اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں

الخرم خمار کی جمع ہے، اور ڈھانپنے والے یعنی سر ڈھانپنے والی چادر کو کہتے ہیں جسے لوگ اوڑھنی یا دوپٹہ کا نام دیتے ہیں۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

و لیضربن کا معنی ولیشدن ہے، یعنی وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر باندھ کر رکھیں، یعنی سینہ اور حلقوم میں سے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو یونس نے ابن شہاب سے بیان کیا انہوں نے عروۃ سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ:

" اللہ تعالیٰ مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت

اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں .

نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پہاڑ کر اوڑھ لیں "

اور امام بخاری ایک دوسری روایت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں انہیں ابراہیم بن نافع نے حسن بن مسلم سے بیان کیا کہ صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھیں:

" جب یہ آیت نازل ہوئی :

اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں .

تو ان عورتوں نے اپنی نیچے باندھنے والی چادروں کو کناروں سے دو حصوں میں پہاڑ لیا اور اس سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیا "

صحیح بخاری حدیث نمبر (4759) .

اور ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں مجھے احمد بن عبد اللہ بن یونس

نے حدیث سنائی وہ کہتے ہیں مجھے زنجی بن خالد نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں عبد اللہ بن عثمان بن خثیم نے صفیہ بنت شیبہ سے حدیث بیان کی وہ کہتی ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں تو ہم نے قریش کی عورتوں اور انکی فضیلت کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں:

" بلا شبہ قریش کی عورتوں کا بہت مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے انہیں انصار کی عورتوں سے افضل نہیں دیکھا: وہ اللہ کی کتاب کی بہت زیادہ تصدیق کرنے والی تھیں، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ پر بہت زیادہ ایمان رکھنے والی تھیں، سورة النور نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت تھی:

اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں .

تو انصاری مرد واپس آکر اپنی عورتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ تلاوت کرتا، اور مرد اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن، اور اپنے ہر رشتہ دار کے سامنے نازل شدہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، چنانچہ انصاری عورتوں میں سے کوئی بھی عورت نہ بچی الا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ حکم کی تصدیق اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی چادر کو اپنے اوپر اس طرح لپیٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے لگیں گویا کہ ان کے سروں پر کوئے ہیں "

اور اسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی حدیث نمبر (4100) میں دوسرے طریق سے صفیہ بنت شیبہ سے بھی بیان کیا ہے۔

اور ابن جریر (18120) میں کہتے ہیں:

حدثنا يونس اخبرنا ابن وهب ان قرقرة بن عبد الرحمن اخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت:

" اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورت پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت

اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں .

نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پہاڑ کر اوڑھ لیں "

اور ابو داؤد نے اسے ابن وهب سے حدیث نمبر (4102) میں بیان کیا ہے۔

دیکھیں: تفسیر ابن کثیر (3 / 283) .

اور آپ نے جو کچھ کتابوں سے یہ نقل کیا ہے کہ: عورت اپنے بھائیوں اور اپنے والد سے بھی پردہ کرے، تو یہ بات حد سے بڑھی ہوئی اور غلط ہے صحیح نہیں۔

حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے:

اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ انکی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو، تا کہ تم نجات پا جاؤ النور (31)۔

واللہ اعلم .